

بینک چار جہز کا شیڈول

جولائی تا دسمبر ۲۰۲۵ء



**WHEN THE WHEEL MOVES
THE NATION MOVES**



نیشنل بینک آف پاکستان

اعتماد Aitemaad

اسلامک بینکنگ ISLAMIC BANKING



بینک چارجز کا شیڈول
جولائی تا دسمبر 2025ء

فہرست مندرجات

صفحہ نمبر	تفصیل	سیریل نمبر
2-3	ترسیلات زر	1.0
3-4	سیف ڈپازٹ لاکرز میں اشیاء کی تحویل	2.0
4-6	ترسیل زر کی متبادل سہولیات (ADC Products)	3.0
7-8	رقم ڈپازٹ کرانے کے لئے اکاؤنٹس کی اقسام	4.0
8-11	صارفین کو سرمائے کی فراہمی کی سہولیات	5.0
11-13	متفرق چارجز / اخراجات	6.0
13	مستقل ہدایات کی فیس	7.0
13-14	بلز	8.0
14-15	گودام کے چارجز	9.0
15	زرخ برائے کارپوریٹ صارف اور MNCs	10.0
15-16	سرمایہ کاری اور پیٹنگی ادائیگیاں	11.0
16-20	بین الاقوامی بینکنگ (International Banking)	12.0

جولائی تا دسمبر 2025ء

نوٹ	فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی / صوبائی سیکڑنگس تمام چارجز پر لاگو ہیں، سوائے جہاں صارف سے صرف اصل چارجز وصول کرنے ہوں (مثلاً کوریئر چارجز، وکیل کی فیس وغیرہ)۔	
1.0	ترسیلات زر	
1.1	بینکرز چیک (BC) کا اجراء	
1.1.1	اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے	کیساں -/600 روپے
1.1.2	طلبہ کیلئے، جو تعلیمی اداروں HEC، بورڈ وغیرہ کی فیس / بقایا جات جمع کر رہے ہوں۔	فیس / بقایا جات کا %0.50 یا -/25 روپے فی آلہ یا جو بھی کم ہو
1.1.3	ٹی۔ ٹی ز کا اجراء شیڈ یل بینکوں اور مالیاتی اداروں کیلئے	%0.04
a	ٹی۔ ٹی ز پر فیکس کی رقم (یا سوئفت چارجز)	اصل / کم از کم -/125 روپے
b	ٹی۔ ٹی ز کے اجراء پر ٹیلی فون کی رقم	کچھ نہیں (بذریعہ ای میل منتقلی ہوگی)
1.2	ڈپلیکیٹ بینکرز چیک (BC) کا اجراء	
1.2.1	اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے	-/750 روپے
1.3	پے آرڈر، ڈیمانڈ ڈرافٹ، بینکرز چیک (BC) کی منسوخی:	
1.3.1	اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے	-/450 روپے (فخت)
نوٹ	بینکرز چیک کے اجراء کے بعد پے آرڈر اور ڈیمانڈ ڈرافٹ منقطع ہو جائیں گے۔	
1.4	برانچوں کے درمیان لین دین (IBT)	
1.4.1	رقم کی منتقلی بذریعہ کاؤنٹر	6 ماہ کیلئے بلا معاوضہ
1.4.2	نقد لین دین بذریعہ کاؤنٹر	6 ماہ کیلئے بلا معاوضہ
نوٹ	این بی پی ہیڈ آفس کے سرکلر لیٹر نمبر: CRBG/OPG/PAATMP/6587 بتاریخ 17-08-2017 کے مطابق آرمی کے تنخواہ دار اراکاؤنٹ رکھنے والے ملازمین اور افسران (JCO, Soldier, NCB, NCE, Civilian) دفاعی تخمینہ جات اور افسران کو ادا ہونے والی رقوم پر)، رقم جمع کرانے، رقم کی منتقلی، رقم نکالوانے، IBT، DD/PO، بینکرز چیک کے اجراء جیسی کسی ٹرانزیکشن / کارروائی پر کسی قسم کی رقم کی ادائیگی لاگو نہیں ہوگی۔	

بینک چارجز کا شیڈول
جولائی تا دسمبر 2025ء

1.5	کال ڈپازٹ رسید کا اجراء	
1.5.1	اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے	350/- روپے
1.6	ڈپلیٹ کال ڈپازٹ رسید کا اجراء	
1.6.1	اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے	700/- روپے
1.7	کال ڈپازٹ رسید کی منسوخی:	
1.7.1	اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے	400/- روپے
2.0	سیف ڈپازٹ لاکرز میں اشیاء کی تحویل	
2.1	سیف ڈپازٹ فیس (پیشگی قابل ادائیگی یا ہر سہ ماہی عرصہ کے آغاز میں وصول کی جائے گی، اور یہ فیس ناقابل واپسی ہے خواہ دوران مدت کسٹمر اس سروس کا استعمال ترک یا منسوخ کر دے)۔	
2.1.1	ڈیوں اور پیک شدہ اشیاء کیلئے	5/- روپے فی 100 کیوبک انچ یا اس کا کوئی حصہ، ساتھ میں کم از کم 400/- روپے فی سہ ماہی
2.1.2	لفافوں کیلئے، (مشمولات نامعلوم)	3/- روپے فی 25 مربع انچ یا اس کا کوئی حصہ، ساتھ میں کم از کم 300/- روپے
2.2	سیف ڈپازٹ لاکرز کی فیس (پیشگی قابل ادائیگی یا سالانہ، ششماہی یا سہ ماہی عرصہ کے آغاز میں وصول کی جائے گی اور یہ فیس ناقابل واپسی ہے خواہ دوران مدت کسٹمر اس سروس کا استعمال ترک یا منسوخ کر دے)۔	
2.2.1	چھوٹا لاکر 0.41 کیوبک فیٹ تک	5,000/- روپے سالانہ
2.2.2	درمیانہ لاکر 0.42 تا 0.80 کیوبک فیٹ تک 0.81 تا 1.35 کیوبک فیٹ تک	7,500/- روپے سالانہ
2.2.3	بڑا لاکر 1.36 تا 1.75 کیوبک فیٹ تک 1.76 تا 2.00 کیوبک فیٹ تک	10,000/- روپے سالانہ
2.2.4	سب سے بڑا لاکر 2.01 تا 2.50 کیوبک فیٹ تک 2.51 تا 3.00 کیوبک فیٹ تک	12,500/- روپے سالانہ
نوٹ	صرف حاضر سروس این بی پی اسٹاف کیلئے ایک لاکر پر 50% رعایت ہوگی۔	

بینک چارجز کا شیڈول
جولائی تا دسمبر 2025ء

2.3 چابی کا ڈپازٹ	
2.3.1	چھوٹی چابی 4,000/- روپے
2.3.2	درمیانی چابی 5,000/- روپے
2.3.3	بڑی چابی 6,000/- روپے
2.3.4	سب سے بڑی چابی 8,000/- روپے
2.4	لاکھ ٹن کے معاوضہ 6,000/- روپے فی لاکھ یا اصل اخراجات جو بھی زیادہ ہوں
نوٹ	ڈپازٹ کا اطلاق نیلا کر جاری کرتے وقت ہوگا۔
2.5 آئی پی ایس (IPS) اکاؤنٹس (Portfolio سروس چارجز)	
2.5.1	تجویلی اکاؤنٹ کے سروس چارجز کوئی نہیں
3.0 ترسیل زر کی متبادل سہولیات (ADC Products)	
3.1 اے۔ ٹی۔ ایم کی سہولت	
3.1.1	نقد رقم کا نکوانا این۔ بی۔ پی کے اے۔ ٹی۔ ایم سے ون لنک (1-Link) ممبر بینک کے اے۔ ٹی۔ ایم سے 35/- روپے فی ٹرانزیکشن بلا معاوضہ
3.1.2	بقایا جات کی معلومات این۔ بی۔ پی اے۔ ٹی۔ ایم 1-Link اے۔ ٹی۔ ایم 4/- روپے بلا معاوضہ
3.1.3	مختصر اسٹیٹمنٹ 5/- روپے (این بی پی اے ٹی ایم)
3.1.4	نقد رقم نکوانے / بیلنس انکوائری کی رسید 4/- روپے
3.1.5	یو۔ پی۔ آئی۔ ای۔ ایم۔ وی۔ ڈیبٹ کارڈ
a	پہلا (اصل) صارف کارڈ کا اجراء سالانہ فیس (بینکنگ) کارڈ کی تبدیلی
b	دوسرا (ماتحت) صارف کارڈ کا اجراء سالانہ فیس (بینکنگ) کارڈ کی تبدیلی

بینک چارجز کا شیڈول
جولائی تا دسمبر 2025ء

3.1.6 پے پاک ای۔ ایم۔ وی۔ ڈیبٹ کارڈ		
a	پہلا (اصل) صارف کارڈ کا اجراء سالانہ فیس (پیٹنگی) کارڈ کی تبدیلی	بلا معاوضہ 1,800/- روپے 900/- روپے
b	دوسرا (ما تحت) صارف کارڈ کا اجراء سالانہ فیس (پیٹنگی) کارڈ کی تبدیلی	بلا معاوضہ 1,800/- روپے 900/- روپے
3.1.7 پے پاک بینک ای۔ ایم۔ وی۔ ڈیبٹ کارڈ		
a	پہلا (اصل) صارف کارڈ کا اجراء سالانہ فیس (پیٹنگی) کارڈ کی تبدیلی	بلا معاوضہ بلا معاوضہ بلا معاوضہ
b	دوسرا (ما تحت) صارف کارڈ کا اجراء سالانہ فیس (پیٹنگی) کارڈ کی تبدیلی	بلا معاوضہ بلا معاوضہ بلا معاوضہ
3.1.8 یونین پے ای ایم وی / کانٹیکٹ لیس گولڈ ڈیبٹ / اے ٹی ایم کارڈ		
a	پہلا (اصل) صارف سالانہ فیس (پیٹنگی) کارڈ کی تبدیلی	3,000/- روپے 1,500/- روپے
b	دوسرا (ما تحت) صارف سالانہ فیس (پیٹنگی) کارڈ کی تبدیلی	3,000/- روپے 1,500/- روپے
3.1.9 پے پاک ماسٹر کارڈ کو بیجڈ ای ایم وی / کانٹیکٹ لیس ڈیبٹ / اے ٹی ایم کارڈ کلاسک *		
a	پہلا (اصل) صارف سالانہ فیس (پیٹنگی) کارڈ کی تبدیلی	4,000/- روپے 2,000/- روپے
b	دوسرا (ما تحت) صارف سالانہ فیس (پیٹنگی) کارڈ کی تبدیلی	4,000/- روپے 2,000/- روپے

بینک چارجز کا شیڈول

جولائی تا دسمبر 2025ء

(ا) بینگی سالانہ فیس کسٹمر سے وصول کی جائے گی، اور یہ چارجز ناقابل واپسی ہیں، خواہ دوران مدت کسٹمر اس سروس کا استعمال ترک یا منسوخ کر دے۔ (ب) این۔بی۔ی۔ پی کے ملازمین کیلئے اسٹاف اکاؤنٹ پر ڈیپٹ کارڈ کی سالانہ فیس معاف ہوگی۔ (ج) سکیم کی وجہ سے ہلاک ہونے والے کارڈ کے متبادل کی فیس چارج نہیں کی جائے گی۔ (د) * یہ چارجز پروڈکٹ دستیاب ہونے پر لاگو ہونگے۔	نوٹ
3.2 ایس۔ایم۔ایس کے ذریعے اطلاع (SMS Alert)	
ایس۔ایم۔ایس۔الٹ	3.2.1 بلا معاوضہ
3.3 ڈیجیٹل (موبائل اپلیکیشن اور انٹرنیٹ بینکنگ)	
3.3.1 موبائل اپلیکیشن / انٹرنیٹ بینکنگ	
(a) موبائل بینکنگ / انٹرنیٹ بینکنگ رجسٹریشن	بلا معاوضہ
(b) NBP کے کسی اور اکاؤنٹ میں ادائیگی (فنڈز ٹرانسفر)	بلا معاوضہ
(c) کسی دوسرے بینک میں ادائیگی (انٹرنیٹ فنڈز ٹرانسفر)	کچھ نہیں
(d) یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی	بلا معاوضہ
(e) موبائل ٹاپ اپس۔ایئر ٹائم ٹاپ اپس	بلا معاوضہ
(f) بیلنس کی معلومات	بلا معاوضہ
(g) شناختی کارڈ پر ادائیگی (سلیب پاکستانی روپے میں)	
1 سے 1,000 تک	44 روپے
1001 سے 2,500 تک	88 روپے
2,501 سے 4,000 تک	132 روپے
4,001 سے 6,000 تک	176 روپے
6,001 سے 8,000 تک	220 روپے
8,001 سے 10,000 تک	264 روپے
10,001 سے 13,000 تک	308 روپے
13,001 سے 16,000 تک	352 روپے
16,001 سے 20,000 تک	418 روپے
20,001 سے 25,000 تک	484 روپے
25,001 سے 30,000 تک	552 روپے
30,001 سے 40,000 تک	618 روپے
40,001 سے 50,000 تک	684 روپے
نوٹ: شناختی کارڈ پر ادائیگی پر لاگو ہونے والے سلیب ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے چارجز کسٹمر ادا کرے گا۔	

بینک چارجرز کا شیڈول

جولائی تا دسمبر 2025ء

4.0 رقم ڈپازٹ کرانے کے لئے اکاؤنٹس کی اقسام		
4.1	اعتماد ماہانہ بچت اکاؤنٹ (AMBA)	ہمیشہ کے فائدے بلا معاوضہ: • چیک بک کا اجراء • بینکرز چیک (BC) کا اجراء
4.2	اعتماد انکم سپورٹ اکاؤنٹ (AISA)	ہمیشہ کے فائدے بلا معاوضہ: • چیک بک کا اجراء • ڈیبٹ کارڈ کا اجراء اور سالانہ فیس کوئی نہیں
4.3	اعتماد سینئر اکاؤنٹ (A Sr.A)	ہمیشہ کے فائدے بلا معاوضہ: • چیک بک کا اجراء • ڈیبٹ کارڈ کا اجراء اور سالانہ فیس کوئی نہیں
4.4	اعتماد بیسک بینکنگ اکاؤنٹ (ABBA)	ہمیشہ کے فائدے بلا معاوضہ: • اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ
4.5	اعتماد آسان کرنٹ اکاؤنٹ (AACA)	ہمیشہ کے فائدے بلا معاوضہ: • چیک بک کا اجراء • ڈیبٹ کارڈ کا اجراء اور سالانہ فیس کوئی نہیں
4.6	اعتماد آسان سیونگ اکاؤنٹ (AASA)	ہمیشہ کے فائدے بلا معاوضہ: • چیک بک کا اجراء • ڈیبٹ کارڈ کا اجراء اور سالانہ فیس کوئی نہیں
4.7	اعتماد فوری ریٹیننس کرنٹ اکاؤنٹ (AFRCA)	ہمیشہ کے فائدے بلا معاوضہ: • چیک بک کا اجراء • ڈیبٹ کارڈ کا اجراء اور سالانہ فیس کوئی نہیں
4.8	اعتماد فوری ریٹیننس سیونگ اکاؤنٹ (AFRSA)	ہمیشہ کے فائدے بلا معاوضہ: • چیک بک کا اجراء • ڈیبٹ کارڈ کا اجراء اور سالانہ فیس کوئی نہیں
4.9	اعتماد مرچنٹ اکاؤنٹ (AMA)	ہمیشہ کے فائدے بلا معاوضہ: • آن لائن بینکنگ - (این بی پی کے وسیع نیٹ ورک پر) • ایس ایم ایس الرٹ - (انفرادی اسول پروپرائیٹڈ کمپنی کے) • چیک بک کا اجراء • بینکرز چیک (BC) کا اجراء • اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ • ای ایم وی ڈیبٹ کارڈ کا اجراء اور سالانہ فیس کوئی نہیں • کال ڈپازٹ رسید • خصوصی (ایک دن میں) کلیئرنگ

بینک چارجز کا شیڈول

جولائی تا دسمبر 2025ء

ہمیشہ کے فائدے بلا معاوضہ: • ایس ایم ایس الرٹس • ڈیجیٹل بینکنگ رجسٹریشن • چیک بک • ڈیٹ کارڈ کا اجراء اور سالانہ فیس کوئی نہیں • اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ • چھوٹے لاکرز پر (دستیابی سے مشروط) • 50% رعایت مزید خاص رعایات: (ریگولر آٹو ہاؤسنگ فنانس / ایڈوانس تنخواہ کے حق میں اجازت سے مشروط) • پروسیڈنگ فیس میں 50% رعایت • قبل از مدت ادائیگی / اختتام کے چارجز میں 50% رعایت • آٹو اور ہاؤسنگ فنانس کیلئے • KIBOR+1.5% کے خاص ریٹ • ریک ریٹ پر 1% رعایت ایڈوانس تنخواہ کیلئے	4.10 اعتماد امیرہ اکاؤنٹ (AAA)	
■ این۔بی۔ پی اعتماد کے شیڈول آف چارجز (SOCs) کے مطابق (لاگو شدہ) تمام سرکاری ٹیکس اور محصول اکاؤنٹ ہولڈرز سے وصول جائیں گے۔ ■ مستثنیٰ مصنوعات پر چارجز ذی طور پر واپس کئے جائیں گے۔ ■ این۔بی۔ پی اعتماد، شیڈول آف چارجز (SOCs) میں درج شدہ چارجز / فیس / رعایات / طریقہ / اصولوں کا وقتاً فوقتاً از سر نو جائزہ لے کر تبدیل یا اپ ڈیٹ کرے گا۔	نوٹ	
5.0 صارفین کو سرمائے کی فراہمی کی سہولیات		
5.1 اعتماد ہمسفر آٹو فنانس (AHAF)		
3,000/- روپے (منظوری کے بعد)	پراسیدنگ فیس (ناقابل واپسی)	5.1.1
حقیقی اخراجات	کاغذی کارروائی کے چارجز	5.1.2
حقیقی اخراجات	بیرونی پتے کی تصدیق	5.1.3
حقیقی اخراجات	آمدنی کا تخمینہ	5.1.4
ٹریڈر 2% سالانہ بغیر ٹریڈر 1.75% سالانہ (جدید لی بی بی ٹی نوٹیفیکیشن سے مشروط)	مکافیل چارجز	5.1.5
حقیقی اخراجات	رجسٹریشن چارجز	5.1.6
حقیقی اخراجات	تخمینہ چارجز (استعمال شدہ / امپورٹڈ)	5.1.7
بقایا مشارکہ پونٹ پر 5%	قبل از مدت ادائیگی کی صورت میں	5.1.8

بینک چارجز کا شیڈول

جولائی تا دسمبر 2025ء

5.1.9	اضافی / جزوی ادائیگی کا اختیار	اضافی / جزوی مشارکہ پونٹ پر 5%
5.1.10	بینک تحویل (قبضہ) میں لینے کے چارجز	حقیقی اخراجات
5.1.11	چیک مسٹر دہونے کے چارجز	250/- روپے فی چیک
5.1.12	چیریٹی	غیر ادا شدہ کرائے کی رقم پر 20% سالانہ کے حساب سے جو کہ معاہدے کے مطابق ہوگی
5.1.13	محفوظ کاروائی کی رجسٹری چارجز (STR)	حقیقی اخراجات
5.1.14	مشارکہ پونٹس کی خریداری میں تاخیر کی صورت میں اضافی قیمت	20% سالانہ کے حساب سے جو کہ معاہدے کے مطابق لاگو ہوگی
5.1.15	چیریٹی - (ڈیلوری سے قبل بینک کی منسوخی کی صورت میں)	10,000/- روپے
5.1.16	امیرہ (خواتین اکاؤنٹ ہولڈرز)	خصوصی رعایت 1% KIBOR برائے امیرہ اکاؤنٹ ہولڈرز
5.2	اعتماد ہاؤسنگ فنانس (AHF)	
5.2.1	پراسیدنگ فیس (ناقابل واپسی)	نیشنل بینک، سرکاری، مسلح افواج کے ملازمین کیلئے - 4,000/- روپے تنخواہ دار، ایس ای بی، ایس ای پی دیگر آمدنی والوں کیلئے - 8,000/- روپے
5.2.2	پراسیدنگ فیس (ناقابل واپسی)	نیشنل بینک، سرکاری، مسلح افواج کے ملازمین کیلئے - 1,500/- روپے تنخواہ دار، ایس ای بی، ایس ای پی دیگر آمدنی والوں کیلئے - 3,000/- روپے
5.2.3	پراسیدنگ فیس (ناقابل واپسی)	کم قیمت مکان کیلئے سرمایہ - خصوصی درجہ 1,500/- روپے
5.2.4	پراسیدنگ فیس (ناقابل واپسی)	نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام (پروجیکٹ کے مطابق فرق ہو سکتا ہے) 4,000/- روپے
5.2.5	کاغذی کاروائی کے چارجز	حقیقی اخراجات
5.2.6	بیرونی پتے کی تصدیق	حقیقی اخراجات
5.2.7	آمدنی کا تخمینہ	حقیقی اخراجات
5.2.8	مکافل چارجز	حقیقی اخراجات
5.2.9	جائداد کی مالیت جانچنے کے چارجز	حقیقی اخراجات
5.2.10	قبل از مدت ادائیگی کی صورت میں (علاوہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام اور کم قیمت مکان سرمایہ) - خصوصی درجہ	بقایا پونٹس پر 5 سال کے اندر 2% کے حساب سے اطلاق - 5 سال سے زائد پر کوئی اضافی قیمت لاگو نہیں ہوگی -

بینک چارجز کا شیڈول

جولائی تا دسمبر 2025ء

اضافی/جزوی ادائیگی کا اختیار (علاوہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام اور کم قیمت مکان سرمایہ)۔ خصوصی درجہ	اضافی/جزوی مشارکہ پونٹس پر 5 سال کے اندر 2% کے حساب سے اطلاق۔ 5 سال سے زائد پر کوئی اضافی قیمت لاگو نہیں ہوگی۔	5.2.11
چیک مسز و ہونے کے چارجز	250/- روپے فی چیک	5.2.12
پراپرٹی ٹیکسز	حقیقی اخراجات	5.2.13
سرچ سرٹیفکیٹ	حقیقی اخراجات	5.2.14
چارج کاغذات کی تیاری	حقیقی اخراجات	5.2.15
مورٹجی ڈیڈ (ڈرافٹنگ + رجسٹریشن)	حقیقی اخراجات	5.2.16
رجسٹریشن ڈیڈ (ڈرافٹنگ + رجسٹریشن)	حقیقی اخراجات	5.2.17
سیل ڈیڈ (ڈرافٹنگ + رجسٹریشن)	حقیقی اخراجات	5.2.18
قانونی مشیر	حقیقی اخراجات	5.2.19
چیرینٹی	غیر ادا شدہ کرائے کی رقم پر 20% سالانہ کے حساب سے جو کہ معاہدے کے مطابق ہوگی	5.2.20
مشارکہ پونٹس کی خریداری میں تاخیر کی صورت میں اضافی قیمت	20% سالانہ کے حساب سے جو کہ معاہدے کے مطابق لاگو ہوگی	5.2.21
امیرہ (خواتین اکاؤنٹ ہولڈرز)	خصوصی رعایت KIBOR+1.5% برائے امیرہ اکاؤنٹ ہولڈرز	5.2.22
5.3 اعتماد ایڈوانس سیلری		
نئی سہولت	پاکستان آرمی کیلئے - 1,000/- روپے جو بھی زائد ہو، عام صارف کے ہر منظور شدہ کیس پر زیادہ سے زیادہ - 20,000/- روپے	5.3.1
نئی دوسری سہولت	پاکستان آرمی کیلئے - 1,000/- روپے جو بھی زائد ہو، عام صارف کے ہر منظور شدہ کیس پر زیادہ سے زیادہ - 20,000/- روپے	
تبدیلی کا کیس	کچھ نہیں (بقایا جات کی صورت میں)	5.3.2
قبل از وقت تصفیہ کے چارجز	کچھ نہیں	5.3.3
دستاویز کے چارجز	حقیقی	5.3.4

بینک چارجز کا شیڈول

جولائی تا دسمبر 2025ء

5.3.5	تصدیق / تخمینہ آمدنی	صارف کو ادا کرنا ہوئے اور اسکی ادائیگی تصدیق کنندہ کمپنی کو بذریعہ بینکرز چیک / آن لائن ادائیگی رسید بذریعہ متعلقہ این بی پی برانچ کرنا ہوگی۔
5.3.6	چیرٹی	زائد المعاد اقساط کی رقم پر سالانہ 20% لاگو ہوگا
5.3.7	امیرہ (خواتین اکاؤنٹ ہولڈرز)	ریک ریٹ پر 1% خصوصی رعایت برائے امیرہ اکاؤنٹ ہولڈرز
6.0 متفرق چارجز / اخراجات		
6.1	اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ	35/- روپے + کوریئر چارجز (اگر ہوں تو)
6.2	ڈپلیکیٹ یا اضافی اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ	35/- روپے فی اسٹیٹمنٹ
6.3	اسٹیٹ بینک یا این۔بی۔پی چیکس کا اجراء	400/- روپے فی چیک
6.4	چیک سے ادائیگی زکوٰۃ مقامی کرنسی (LCY) غیر ملکی کرنسی (FCY)	LCY اکاؤنٹ - 500/- روپے فی ہدایت FCY اکاؤنٹ - 7/- امریکی ڈالر فی ہدایت
نوٹ	ادائیگی زکوٰۃ کے چارجز ایک مرتبہ لاگو ہوئے چاہے ایک یا ایک سے زائد چیکس ہوں۔	
6.5	چیکس کلیئرنگ چارجز، جہاں کلیئرنگ ہاؤس سہولت نہ ہو	کوئی نہیں
6.6	دیگر بینک / صارف کیلئے ٹیسٹ کی تصدیق	300/- روپے (فقط)
6.7	غیر ملکی سپلائر / خریدار پر کریڈٹ انفارمیشن بشمول کریڈٹ رپورٹ	غیر ملکی نمائندے یا ادارے کے اصل چارجز + سوئفٹ چارجز
6.8	آڈیٹ زکوٰۃ بینک بیلنس کی کنفرمیشن	500/- روپے
6.9	قرض دینے والے غیر ملکی اداروں سے ذاتی غیر ملکی کرنسی کی سہولت لینے والے پاکستان میں موجود صارفین کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے معاندے کی رجسٹریشن	برستے کے چارجز - 5000/- روپے (فقط)
6.10	بیلنس کی تصدیق کا سرٹیفکیٹ (آڈیٹرز کے علاوہ صارف کی ضرورت پر) مقامی کرنسی (LCY) غیر ملکی کرنسی (FCY)	فی سرٹیفکیٹ 300/- روپے 2/- ڈالر یا دیگر کرنسی میں اسکے برابر

بینک چارجز کا شیڈول

جولائی تا دسمبر 2025ء

6.11	گمشدہ چیک بک کے بدلے میں نئی چیک بک کا اجراء (صرف مقامی کرنسی کے اکاؤنٹ کیلئے) یہ چارجز ”ادائیگی رکوانے کے چارجز“ کے علاوہ ہیں، جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔	فی درخواست -/225 روپے 2/- امریکی ڈالر (FCY اکاؤنٹ میں)
نوٹ	بینک ملازمین چیک بک اجراء کے چارج سے مستثنیٰ ہیں۔	
6.12	اکاؤنٹ بند / ختم کرنے کا معاوضہ	کوئی نہیں
6.13	چیک بک کا اجراء (FCY/LCY)	16/- روپے فی چیک (موجودہ مشارکہ صارف کیلئے بلا معاوضہ)
6.13.1	خصوصی چیک بک کا اجراء A4 سائز میں	32/- روپے فی چیک
6.14	چیک بک ارسال کرنے کے اخراجات	حقیقی اخراجات
6.15	آجر سے، ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کی خدمات کا معاوضہ	شرعیہ بورڈ سے منظور شدہ انتظامات کے مطابق
نوٹ	اکثر تجارتی ادارے (سرکاری، نیم سرکاری اور خود مختار اداروں کے علاوہ) اپنے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی ہماری برانچوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ جبکہ ایسے ادارے، اپنا کاروبار ہمارے بینک کے ذریعے نہیں چلاتے، نہ ہی اطمینان بخش سرمایہ بینک میں برقرار رکھتے ہیں کہ تنخواہوں کی ادائیگی کیلئے بینک پر پڑنے والے کام کے بوجھ سے انصاف ہو سکے۔ بینک ایسے اداروں سے تنخواہوں کی ادائیگی کیلئے پڑنے والے اضافی کام کے بوجھ کا معاوضہ طلب کرنے میں حق بجانب ہے۔ ہم محتاط قواعد کے تحت انفرادی کھاتوں سے وصولی نہیں کر سکتے۔ تاہم، ہم ایسے آجر سے معاوضہ وصول کر سکتے ہیں، جو اپنا کاروبار ہمارے بینک کے ذریعے نہیں چلاتے ہوں، اور نہ ہی اطمینان بخش سرمایہ بینک میں برقرار رکھتے ہوں۔ ہم اُن سے اُن کے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کی خدمات کا معاوضہ لازمی وصول کرتے ہیں۔	
6.16	چیک کیش کرنے کے اختیارات	خدمات نہیں پیش کی جاتیں
6.17	پریزم ٹرانزیکشن چارجز (PRISM) تمام بینکوں کے مابین سرمائے کی منتقلی (IFTs) بشمول صارف کی منتقلی (RTGs)	200/- روپے ترسیل کرنے والے بینک کی جانب سے
6.18	خصوصی ایک دن میں کلیئرنگ بذریعہ (NIFT) 5 لاکھ سے زائد مالیت کے چیک کیلئے	حقیقی اخراجات
نوٹ	ایک ہی (NIFT) آفس کے دائرہ کار میں آنے والے شہروں (مثلاً اسلام آباد اور راولپنڈی) میں کلیئرنگ کے چیکس پر یکمیشن چارجز وصول نہیں کیئے جائیں گے۔ اور انہیں مقامی کلیئرنگ کی طرح برتا جائے گا۔	
6.19	ٹیلیفنی بلز کی وصولی کی خدمات کے چارجز ٹیکس / بجلی کی خدمات	10/- روپے فی بل۔ ٹیلیفنی سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں سے معاوضے کے مطابق
6.20	ویزا، انکم ٹیکس وغیرہ کیلئے بینک سرٹیفیکیٹ	400/- روپے (فقط) فی سرٹیفیکیٹ
6.21	RTGS چارجز	’مفت‘

بینک چارجز کا شیڈول

جولائی تا دسمبر 2025ء

6.22	اسلحہ کے لائسنس فیس (حکومت سندھ کی جانب سے جاری کیئے گئے)	26/- روپے فی چالان
6.23	اسلحہ کے لائسنس فیس (کے۔ پی۔ کے حکومت کی جانب سے جاری کیئے گئے)	25/- روپے فی چالان
6.24	پاسپورٹ فیس	25/- روپے فی چالان
6.25	ڈرائیونگ لائسنس فیس (برائے حکومت سندھ)	فیس کا 2.50%
6.26	KPK پبلک سروس کمیشن کے امتحانی فیس کی وصولی۔ بغیر برانچ کے بینکنگ چینل کے ذریعے	40/- روپے
6.27	معذور افراد (PWDs) کیلئے گھر پر بینکنگ کی سہولت ***	
6.27.1	برانچوں کے ذریعے معذور افراد (PWDs) کیلئے سہولیات	
(a)	بائیومیٹرک تصدیق	مفت
(b)	چیک بک کی ڈیلیوری گھر پر	ڈیلیوری چارجز مفت
(c)	ڈیبٹ کارڈ کی ڈیلیوری گھر پر	ڈیلیوری چارجز مفت
نوٹ	*** برطانیہ SBP BC&CPD کے 2021 کے سرکل نمبر 5	
7.0	مستقل ہدایات کی فیس	
7.1	مستقل ہدایت (اگر کوئی ہو) کی فیس، رقم کی ترسیل کے چارجز کے ساتھ وصول کی جائے گی۔	200/- روپے فی ٹرانزیکشن
8.0	بلز	
8.1	دستاویزی بلز	0.40% کم سے کم - 600/- روپے کوریئر / ڈاک خرچ اس کے علاوہ
8.2	کلین (بشمول چیکس / ڈیویڈنڈ وارنٹس / بینک ڈرافٹ وغیرہ)	0.25% کم سے کم - 150/- روپے زیادہ سے زیادہ - 10,000/- روپے کوریئر / ڈاک خرچ اس کے علاوہ
نوٹ	سرکاری محکموں کی جانب سے سرکاری کھاتوں میں منتقلی کیلئے موصول ہونے والے بیرون شہر چیکس پر جو ایسی جگہوں سے نکلوانے کیلئے ہوں جہاں بینک کا دفتر موجود ہے، خدمات کا کوئی معاوضہ نہیں ہونا چاہیئے۔ اس رعایت کا اطلاق بیرون شہر کے ایسے چیکس پر نہیں ہوتا جو عوام الناس کے جانب سے سرکاری واجبات کی ادائیگی کیلئے موصول ہوں، اُن پر بینک کے مروجہ چارجز لاگو ہونے چاہئیں۔	
نوٹ	زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 1980 (ترمیم شدہ 1997) کے مطابق بینک اپنی خدمات، جو آرڈیننس کے تحت کھاتوں پر لازم زکوٰۃ اور عشر کا تعین و کوٹہ یا ادائیگی سے متصل ہوں بلا معاوضہ فراہم کرے گا۔ علاوہ ازیں ایسے چیکس پر جو مرکزی زکوٰۃ فنڈ سے مستفید ہونے والے اکاؤنٹ میں منتقل ہوں، کوئی معاوضہ وصول نہیں کیا جائے گا۔	

بینک چارجز کا شیڈول

جولائی تا دسمبر 2025ء

8.3	نیشنل بینک کے اپنے چیکس، ڈیمانڈ ڈرافٹس اور پے آرڈرز کیلئے	0.15% کم از کم -/100 روپے اسکے علاوہ کوریئر/ڈاک خرچ زیادہ سے زیادہ -/5,000 روپے
a	ڈاک / کوریئر کے چارجز، ہر آلے (کلین ہویا دستاویزی) کی کلکیشن / تحصیل پر وصول کیئے جائیں گے۔ جبکہ ایسی صورت میں جہاں فریق ایک ہی برانچ میں ایک سے زائد چیک یا آلہ ایک خاص تاریخ میں وصول / جمع کرنے کیلئے دیتا ہے، ڈاک / کوریئر چارجز (صرف ایک مرتبہ) وصول کیئے جائیں گے۔	
b	کم مالیت کے چیکس کی کلکیشن بذریعہ عام ڈاک (کوریئر کے علاوہ) متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر فریق نے تحریری طور پر خصوصی درخواست کی ہو کہ کاروائی میں تاخیر کی ذمہ داری خود اس کی ہوگی۔	
c	دیگر چیکس / ڈیمانڈ آلہ (ڈیوینڈ وائٹس کی طرح)	0.60% کم سے کم -/20 روپے
d	کلکشن کرنے والے بینک کے چارجز اضافی ہوئے (اگر کلنگ بینک، بینک کے علاوہ ہو)	حقیقی چارجز
e	ٹیلی فون کے چارجز اضافی ہوئے، اگر کاغذ کے بارے میں فون پر معلومات مانگی گئی ہوں۔	اصل خرچ
f	اگر کاغذ بغیر ادائیگی کے واپس آجائے۔	
(i)	دستاویزی وصول / کلکیشن کی واپسی کے چارجز	-/370 روپے + کوریئر چارجز بمطابق مندرجہ بالا (دستاویزی)
(ii)	کلین وصول / کلکیشن کی واپسی کے چارجز	-/160 روپے + کوریئر چارجز بمطابق مندرجہ بالا (کلین)
نوٹ	کریڈٹ کمیٹی کو اختیار ہوگا کہ وہ ایسے صارفین کے لئے تمام تجاویز کی منظوری دے جن کے لین دین کا مجموعی حجم 500 ملین روپے سے زائد نظر آتا ہو (Non Funded اور Funded، دونوں) اور تمام MNC's تریلی چارجز کی صورت میں۔ کاروبار کے حصول کیلئے ملکی / سمندر پار بلز پر کمیشن، صارف سے مذاکرات کے مطابق چارج کیا جائے گا۔	
9.0	گودام کے چارجز	
9.1	گودام کا کرایہ	حقیقی اخراجات
9.1.1	مقدم کی صورت میں (منظم عہد)	حقیقی اخراجات
9.2	گودام کے ملازمین کی تنخواہ (کیپر / چوکیدار)	حقیقی اخراجات
9.3	گودام کے معائنے کے چارجز	حقیقی اخراجات (برتاؤ کے مطابق)
a	گودام کا معائنہ بغیر کسی شہری حدود کے	اگر گودام کے معائنے کے چارجز -/500 روپے تک ہوں تو اسلاف کو ادائیگی کیلئے فریق کے اکاؤنٹ سے منہا کر لیے جائیں۔ اگر معائنے کے چارجز -/500 روپے سے زائد ہوں تو فریق کے اکاؤنٹ سے منہا کر کے "بینک اکم اکاؤنٹ" میں جمع کر لئے جائیں اور جاز اتھارٹی کی منظوری سے فی اے / ڈی اے چارجز کی ادائیگی

بینک چارجز کا شیڈول

جولائی تا دسمبر 2025ء

b	گودام کا معائنہ بذریعہ پی بی اے کے منظور شدہ بیرونی سرویزر/ایویلیوایٹر	3,000/- روپے بینک فی صارف
نوٹ	اگر گودام کا معائنہ ریجنل/ہیڈ آفس کے آڈیٹر/بیرونی آڈیٹر کریں یا/اور ریجنل ہیڈ کوارٹر کی جانب سے وقتاً فوقتاً چانک چیکنگ کی جائے، تو ایسی صورت میں صارفین سے کوئی چارج وصول نہیں کیئے جائیں گے، کیونکہ یہ بینک کے عمومی فرائض کا حصہ ہے۔	
9.4	ڈیلوری چارجز / آمدورفت کے چارجز اگر گودام کا رکھوالا / کیپر تعینات نہیں ہے، تب گودام پر آمدورفت کے چارجز وصول کیئے جائیں گے۔	حقیقی اخراجات
9.5	دیگر ناگہانی اخراجات ہنگامہ داری قانونی چارجز	حقیقی اخراجات حقیقی اخراجات
9.6	سرکاری ضمانتوں پر حقوق / دعووں کی نشاندہی کے بینڈنگ چارجز	600/- روپے (فقط) فی صارف (وہ برائے وصول کرے جہاں سرمایہ کاری ہوئی)
9.7	این بی پی کی دوسرے بینکوں کیلئے جاری کی گئی ضمانتوں پر حقوق / دعووں کی نشاندہی	550/- روپے (فقط) فی صارف
نوٹ	ایسے چارجز میں متفرق چارجز، جیسے گودام کا کرایہ، گودام اسٹاف کی تنخواہ، گودام معائنہ کے چارجز وصول نہیں ہو رہے، سرمایہ کار صارف سے وصول ہونے والی رقم، گودام کے کرائے، اسٹاف کی تنخواہ وغیرہ سے زائد نہیں ہو سکتے۔ دیگر الفاظ میں متفرق چارجز ”اصل“ کے مطابق عائد ہونے چاہئیں نہ کہ بینک کے لینے منافع کا ذریعہ۔ جبکہ متعلقہ اسٹاف کو آمدورفت کے اصل چارجز کی ادائیگی مجاز اتھارٹی کی باقائدہ منظوری کے بعد اخراجات اکاؤنٹ سے کی جائے گی۔	
10.0	نرخ برائے کارپوریٹ صارف اور MNCs	
10.1	سرمائے کے لین دین کے مجموعی حجم 500 ملین روپے کے ساتھ (سرمایہ ہو اور نہ ہو، دونوں) اور تمام MNCs تزیل زر (سرمائے کی منتقلی) کے چارجز	صارف سے طے شدہ معاملے کے مطابق
11.0	سرمایہ کاری اور بینکنگ ادائیگیاں	
11.1	قانونی دستاویزات کی فیس	حقیقی اخراجات
11.2	ڈائریکٹرز کی تحقیق، لاگت کی تحقیق، مقامی ساکھ کی آگاہی / رپورٹ	
(a)	آزاد حصص کی تصدیق / آزاد ساکھ کی رپورٹ / اثاثوں کا تخمینہ	اصل، کم از کم - 400 روپے

بینک چارجز کا شیڈول

جولائی تا دسمبر 2025ء

معاملہ در معاملہ کی بنیادوں پر لاگت وصول کر لی جائے گی، بمطابق ہدایتی سرکل نمبر 111/2003 بتاریخ 13/12/2003 ہدایتی سرکل نمبر 54/2011 بتاریخ 13/06/2011 میں درج ہدایات یا متعلقہ گروپ کی نظر ثانی پر	سرحد پار کلائنٹ کی حیثیت کی رپورٹ، تحقیقاتی رپورٹ منجانب ICIL، Bradstreet، Dub وغیرہ۔	(b)
200/- روپے فقط 250/- روپے فقط	ECIB چارجز (صارف قرضہ کے علاوہ) فرد واحد کیلئے دیگر	(c)
10,000/- روپے (فقط)	(متفرق) چارجز برائے اجراء NOC صارف کی درخواست پر، کہ اپنے قلمبند اثاثوں پر اضافی pari-passu چارج / دوسرا چارج / تنجیمہ وجود میں لائے اور دیگر بینکوں / مالیاتی اداروں سے منصوبے کا مزید سرمایہ حاصل کر سکے۔	11.3
ایسے چارجز ان پر لاگو نہیں کئے جائیں گے جو؛ - صارفین، 100 ملین روپے سے زیادہ کی کل سہولت کے حامل ہوں۔ - صارفین، جنہیں مشترکہ سرمایہ کاری کے تحت سہولت لینے کی اجازت ہو۔	نوٹ	
3,000/- روپے	چارج / حوالگی کی ریڈیشن کی فیس، فریق / صارف سے وصول کی جائے گی، جب بینک انفران کو رہن شدہ کی ریڈیشن کیلئے رجسٹر اے کے سامنے ٹکایا جائے۔	11.4
1,000/- روپے	SECP سے چارج / حوالگی کی خلاصی	(a)
اصل بمع 1,000/- روپے فی معاملہ	SECP میں چارج / حوالگی کی رجسٹریشن	(b)
اصل بمع 1,000/- روپے فی معاملہ	رجسٹر آف فیس سے چارج / حوالگی کی رجسٹریشن	(c)
500/- روپے فی چکر / ٹرپ	دیگر اداروں سے جاری ضمانتوں پر دعووں کا بندوبست کرنے کیلئے	(d)
بین الاقوامی بینکنگ (International Banking)		12.0
برآمدات (Exports) (مقامی امریکی ڈالر زوالے آلات / چیکس کا جمع کرنا)		12.1
200/- روپے	چیکس / آلات جو کراچی کی برانچوں سے وصول ہوں	12.1.1
300/- روپے	چیکس / آلات جو کراچی سے باہر کی برانچوں سے وصول ہوں	12.1.2
چیکس / آلات جو بیخبر ادائیگی کے واپس آجائیں		12.1.3
400/- روپے	کراچی کی برانچوں سے وصول ہونے والے	(a)

بینک چارجز کا شیڈول

جولائی تا دسمبر 2025ء

(b)	کراچی سے باہر کی برانچوں سے وصول ہونے والے	500/- روپے
12.2	بیرونی ترسیلات (Remittances-Outward)	
12.2.1	بیرون ملک ترسیل بذریعہ غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ خدمات کے چارجز	1/- امریکی ڈالر فی - 1000 امریکی ڈالر یا کوئی حصہ، کم از کم - 5 روپے زیادہ سے زیادہ - 25 امریکی ڈالر جمع - 125 روپے سوئفٹ چارجز
12.2.2	غیر ملکی کرنسی کی یادداشتوں سے دستبرداری کے بدلے ترسیل زیری FCY اکاؤنٹ میں نقد رقم کا ڈپازٹ، اس طرح کے ڈپازٹ کی تاریخ سے 10 دن کے اندر	خدمات کے چارجز 1% کے حساب سے۔ 12.2.2 کے تحت بتائے گئے چارجز کے ہمراہ وصول کئے جائیں گے۔ اگر زیر ترسیل - 5,000 امریکی ڈالرز یا اس کے برابر دیگر غیر ملکی کرنسی سے بڑھ کر یا برابر ہو۔
نوٹ	1% کے حساب سے خدمات کا معاوضہ / چارجز وصول کئے جائیں گے، جب FCY اکاؤنٹ میں جمع کی گئی رقم جمع کرانے کی تاریخ کے 10 دن کے اندر پاکستان روپے (LCY) میں تبدیل یا کیش کرالی جائے۔	
12.2.3	بیرونی یا مقامی بینکوں / برانچوں اور وہاں جہاں غیر ملکی کرنسی میں ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا ہو، سے موصول ہونے والی (FCY) اکاؤنٹ سے واپس (داخلی / اندرونی) ٹرانزیکشن	3/- امریکی ڈالر فی - 1,000 امریکی ڈالر یا اس کا حصہ - 3 امریکی ڈالر زیادہ سے زیادہ - 6 امریکی ڈالر
12.2.4	مقامی / اندرون ملک، بینک کی برانچوں سے موصول ہونے والے غیر ملکی کرنسی کے حامل داخلی چیکس جو FCY اکاؤنٹ سے، بعد از تبدیلی، (محاز ڈیلرز کے یکساں خریداری T.T. ریٹس پر) پاکستانی روپے (LCY) میں ادائیگی کیلئے ہوں	خدمات کا معاوضہ 15 پیسے فی - 100 روپے کم از کم - 200 روپے
12.2.5	بیرون ملک رقم کی ترسیل، غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ کے وسیلے کے علاوہ	
(a)	طلبہ (تعلیمی مقاصد کیلئے)	200/- روپے جمع سوئفٹ چارجز
(b)	طلبہ کے علاوہ	50/- روپے فی - 1,000 امریکی ڈالر کم از کم - 200 روپے اور زیادہ سے زیادہ - 500 روپے جمع سوئفٹ چارجز برائے ٹیلی گرافک ٹرانسفر یا عام ڈاک کے چارجز جیسا بتایا گیا ہو۔

بینک چارجز کا شیڈول

جولائی تا دسمبر 2025ء

(c) خدمات کا معاوضہ برائے اجراء:	
(i) غیر ملکی ڈیمانڈ ڈرافٹ (FDDs)	@ 10% یا 1/- روپیہ فی 1,000/- روپے
(ii) غیر ملکی ٹیلی گرافک ٹرانسفر (FTT)	@ 10% یا 1/- روپیہ فی 1,000/- روپے
(d) غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ کیلئے FDD/FTT کی منسوخی کے چارجز	300/- روپے فی آئٹم جمع سوئفٹ / ڈاک خرچ
(e) FDD کی نقل (ڈپلیکیٹ) کا اجراء	500/- روپے جمع عمومی سوئفٹ / ڈاک خرچ
(f) غیر ملکی بلز جو وصولی کے لئے بھیجے گئے ہوں اور بغیر ادائیگی کے واپس ہو جائیں۔	350/- روپے (فقط) جمع سوئفٹ اور متعلقہ بینک کے چارجز (اگر ہوں)
(g) غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ میں مستقل ہدایت کے چارجز	16/- امریکی ڈالر فی ہدایت 250/- روپے فی چیک
(h) بغیر ادائیگی واپس ہونے والے چیک کیلئے معاوضہ؛ جب غلطی صارف کی ہو جسکی جانب سے چیک وصولی کیلئے دوسرے بینک بھیجا گیا ہو، جہاں وہ بینک اس معاوضے کا اطلاق کرے۔ کاؤنٹر سے بیئر چیک کی واپسی کی صورت میں ایسے چارجز لاگو نہیں ہو سکتے۔	
(i) پاکستانی کرنسی (LCY) اکاؤنٹ	250/- روپے فی چیک
(ii) غیر ملکی کرنسی (FCY) اکاؤنٹ	15/- امریکی ڈالر فی چیک
نوٹ	بینک سے NOC / اجازت نامے کا اجراء، صارف سے درج بالا چارجز کی وصولی سے مشروط ہے
12.3 داخلی ترسیلات (Remittances-Inward)	
12.3.1	اندرون خانہ ترسیل کوئی چارج نہیں (صفر چارجز)
12.3.2	دیگر ترسیلات
(i)	اگر کاروائی ادا کنندہ کے بینک کی کسی اکاؤنٹ میں جمع کئے جائیں
(ii)	دیگر صورت میں 10/- روپے یکساں چارجز
12.3.3	داخلی غیر ملکی ڈرافٹس / غیر ملکی MTs کی ادائیگی پر خدمات کے چارجز، جہاں ادائیگی کے دستاویز ہمارے غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ کو موصول ہونے کے بعد، استفادہ کرنے والے کو ادائیگی کی گئی یہ چارجز جب وصول کرنے ہو سکتے، جب T.T. خریداری ریٹ کا اطلاق ہوا ہو۔
12.3.4	غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کرنے کیلئے کرنسی نوٹوں کی تحویل / ترسیل کی خدمات / بینڈ لگ کا معاوضہ

بینک چارجز کا شیڈول

جولائی تا دسمبر 2025ء

(i)	اگر جمع کرانے کے 10 دن کے اندر کوئی ترسیل نہ ہوئی ہو	کچھ نہیں
(ii)	بصورت دیگر، ترسیل کے چارجز	فہرست میں 12.3.2 کے مطابق
12.3.5	غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ کو جمع کرنا	
(i)	1,000/- امریکی ڈالر تک	5/- امریکی ڈالر
(ii)	1,000/- امریکی ڈالر سے زیادہ	15/- امریکی ڈالر
12.4	متفرق (ڈاک / فیکس / کوریئر / سوفٹ)	
12.4.1	ڈاک خرچ (عام)	
(a)	مقامی	60/- روپے
(b)	اندرون ملک	125/- روپے
12.4.2	ڈاک خرچ (رجسٹرڈ)	
(a)	مقامی	60/- روپے
(b)	اندرون ملک	125/- روپے
(c)	غیر ملکی ڈاک خرچ	اصل، کم سے کم -250 روپے یکساں
12.4.3	فیکس / ٹیلی فون	150/- روپے (فقط)
12.4.4	سوفٹ غیر ملکی:	
(a)	مکمل سوفٹ / مکمل پیغام	1,500/- روپے برائے مکمل پیغام
(b)	ٹیلی گرافک ٹرانسفر اور متفرق پیغامات	1,000/- روپے برائے مختصر پیغام
12.4.5	کوریئر چارجز	
(a)	مقامی	100/- روپے
(b)	اندرون ملک	400/- روپے
(c)	بیرون ملک	اصل، کم سے کم -5,000 روپے یا صارف سے کئے گئے معاہدے کے مطابق اور RH/RCH کی منظوری سے
12.4.6	ایک سالہ کارگزار سند / سرٹیفکیٹ کا اجراء	500/- روپے (فقط) فی سرٹیفکیٹ
12.4.7	صارف کی درخواست پر کاروباری کارکردگی سند / سرٹیفکیٹ کا اجراء	1,000/- روپے (فقط) فی سرٹیفکیٹ

بینک چارجز کا شیڈول

جولائی تا دسمبر 2025ء

12.4.8	دیگر بینکوں سے بغیر چھاننی، مشین توثیق شدہ آنی ہوئی نقدی / کیش / کرنسی نوٹوں کو جانچنے اور بینک کرنے کا عمل اسٹیٹ بینک کے کرنسی نوٹ انتظام / برتنے کی حکمت عملی کے مطابق (صرف 500، 1000 اور 5000 روپے والے کرنسی نوٹوں کیلئے)	350/- روپے فی ہنڈل
نوٹ	اعتماد اسلامک بینکنگ (AIBG) گروپ کے آپریشن ڈویژن کے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ برنس درخواستوں پر انتظامات کریں، بشمول NIFT کی طرف سے فراہم کی جانے والی خدمات سے تعلق رکھنے والے مالیت کے، علاوہ ازیں گروپ کو اختیار ہے کہ وہ ایسے چارجز میں کسی قسم کی تبدیلی سے بذریعہ سرکلر آگاہ کریں، جو 1-Link وغیرہ کے چارجز شیڈول سے وابستہ ہوں، اگر 1-Link نے اپنے چارجز شیڈول میں تبدیلی کی ہو۔	
	قانون اور ضابطوں کے مطابق کوئی بھی ترمیم بشمول 1-Link / NIFT چارجز از خود مؤثر ہو جائے گی۔	